

اسماء عدد چار طرح کے ہوتے ہیں۔

There are 4 types of numbers.

1000	100	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مفرد mufrad	العدد الاصلی Cardinals numeral
			19	18	17	16	15	14	13	12	11	وکب compound	
				90	80	70	60	50	40	30	20	عقود knotted	
31-39 till 99			29	28	27	26	25	24	23	22	21	وکب عطفی Murakub atafi	

العقود

knotted

بیس سے لے کر نوے (20-90) تک کے اعداد کو ”العقود“ کہتے ہیں۔ یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں اور اعرابی لحاظ سے بھی جمع مذکر سالم کے مشابہ ہوتے ہیں۔

العقود ”Uqud“ . العقود ”عقود“ These numbers are called the Uqud .

They have the form of the sound masculine plural, and so their Irab is like that of the sound masculine plural.e.g:

ایک سو (100) اور ایک ہزار (1000) کے اعداد کے قواعد بھی ”العقود“ کی طرح ہوتے ہیں۔

100 and 1000 numbers also like Uqud.

”العقود“ اعداد میں تذکیر و تانیث کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ مذکر و مؤنث کے ساتھ العقود جنس نہیں بدلتے۔

The Uqud have the same form with the masculine as well as the feminine madud.

عشرون بنتاً (بیس لڑکیاں) 20 girls.

عشرون ولدًا (بیس لڑکے) 20 boys.

مائة بنتٍ (سو لڑکیاں) 100 girls.

مائة وُلدٍ (سو لڑکے) 100 boys.

ألف بنتٍ (ہزار لڑکیاں) 1000 girls.

ألف وُلدٍ (ہزار لڑکے) 1000 boys.

رقم	العقود	واحد عدد	رقم	العقود	واحد عدد
60	سِتُّونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	سِتُّ	20	عِشْرُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	عِشْرٌ
70	سَبْعُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	سَبْعٌ	30	ثَلَاثُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	ثَلَاثٌ
80	ثَمَانُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	ثَمَانٍ	40	أَرْبَعُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	أَرْبَعٌ
90	تِسْعُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	تِسْعٌ	50	خَمْسُونَ مُدْرِسًا / مُدْرِسَةً	خَمْسٌ

There are 20 teachers in the class .

کلاس میں بیس (مذکر / مونث) ٹیچرز ہیں۔

مُنْرَسًا / مُنْرَسَةً	عِشْرُونَ	فِي الْفِضْلِ (خبر مقدم محذوف)
تمیز (مذکر / مونث معلود)	مبتداً مؤخر نكرة	جار مجرور متعلق خبر مقدم

I saw 20 teachers (m/f)..

میں نے بیس ٹیچر دیکھے / دیکھیں۔

مُنْرَسًا / مُنْرَسَةً	عِشْرِينَ	رَأَيْتُ
تمیز (مذکر / مونث معلود)	مفعولٌ به منصوب بالياء	فعل ماضی فاعل ضمیر (ت)

I bought the book for 20 riyals.

میں نے بیس ریال کی کتاب خریدی۔

رِيَالًا	بِعِشْرِينَ	الْكِتَابَ	اِشْتَرَيْتُ
تمیز	باء حرف جر عِشْرِينَ مجرور بالياء	مفعولٌ به	فعل ماضی فاعل ضمیر (ت)

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَزَلْنَا بِهٖ بِرَبِّهِ ۖ رُبْعِينَ لَيْلَةً﴾ (الأعراف: 142)

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے دس مزید راتوں سے پورا کیا تو اس کے پروردگار کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی۔

And We made an appointment with Musa for thirty nights, then We supplemented them with another ten. So, the total period fixed by his Lord was forty nights.

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ (الحاق: 32)

پھر اسے ایک ستر گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔

Thereafter, fasten him with a chain the measure of which is seventy hands.

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ۖ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾ (الأعراف: 155)

اور ہماری طے شدہ میعاد کے لئے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمی چن لئے۔

And Musa selected seventy men from his people for Our appointment.